

## ادبی دماغی ورزش - سلسلہ (۴۸)

ڈاکٹر شمیم احمد صدیقی

C-2، نسیم منزل، مدح گنج، پولیس چوکی، سینٹا پور روڈ، لکھنؤ۔ 226020

- رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے درج ذیل اشعار کو دیئے گئے اشاروں کی مدد سے مکمل کیجئے۔
- (۱) اس ..... میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہوگئی
- اشارہ: ہم نے دوڑ کر چور کو دبوچ لیا لیکن 'ڑ' کی چڑیا اڑ گئی اور زمانہ رہ گیا۔
- (۲) ایک مدّت سے یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں..... ایسا بھی نہیں
- اشارہ: مجھے کے ابتدائی حرف کو دو نقطہ والے ایک حرف سے بدل دیں۔
- (۳) تم ..... بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں
- اشارہ: جس شخص سے ہم خطاب کرتے ہیں یعنی بات چیت کرتے ہیں اس کو مخاطب کہتے ہیں۔
- (۴) جن کو اتنا یاد کرو ہو، چلتے پھرتے سائے تھے ان کو مٹے تو مدّت گزری، نام و نشان کیا..... ہو
- اشارہ: تم پوچھو اور میں نہ بتلاؤں ایسے تو حالات نہیں (قتیل شفائی)
- (۵) دکھا تو دیتی ہے بہتر ..... کے سنے خراب ہو کے بھی یہ زندگی خراب نہیں
- اشارہ: جس نے بھلا دیے ہیں تقاضے حیات کے وہ شخص اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا (شعلہ لکھنوی)
- (۶) سچ جھوٹ کی ..... تو کسے لیکن اے فراق کوئی بیان درد سناتا ہے آج بھی
- اشارہ: آپ نے بغیر الف والا اخبار تو ضرور دیکھا ہوگا۔
- (۷) غرض کہ کاٹ دیے زندگی کے ..... اے دوست وہ تیری یاد میں ہوں یا تجھے بھلانے میں
- اشارہ: شب وہی شب ہے، دن وہی دن ہے جو تری یاد میں گزر جائے (حسرت موہانی)
- (۸) مانا کہ تیرے لطف و کرم میں کمی نہیں
- ..... اس قدر تو تری دوستی نہیں
- اشارہ: آسمان کے اندر سے نم نکالتے ہی مشکل دور ہوگئی۔
- (۹) ہم ..... ہیں ضرور، مگر اس کو کیا کریں اب زندگی شریک ہماری نہیں رہی
- اشارہ: ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں (جاں نثار اختر)
- (۱۰) یوں تو ..... سے کچھ نہیں ہوتا جی نہیں مانتا تو کیا کیجئے
- اشارہ: "پارونے ہوم ورک کر لیا ہے"۔ اس جملہ سے ہنسنے کا اُلٹا نکال کر دیکھیں۔
- (جوابات آئندہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کریں)
- (سلسلہ 47 کے جوابات صفحہ 34 پر)